

اسم کی اعرابی حالت
فاعل اور مفعول کی پہچان

Status of Noun-
Recognizing Subject and Object

Assignment:

1. Copy slide 1 and 2.
- 2. Worksheet slide 5 and 6**

Lesson 7

Chapter (2) sūrat l-baqarah (The Cow)

(2:251:6)

jālūta

Jalut,

(2:251:5)

dāwūdu

Dawood

(2:251:4)

waqatala

and killed

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

Chapter (73) sūrat l-muzamil (The One wrapped in Garments)

(73:16:3)

l-rasūla

the Messenger,

(73:16:2)

fir'awnu

Firaun

(73:16:1)


fa'aṣā

But disobeyed

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ

N PN V REM

فاعل
مفعول به



← كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ (مے)

ہر فاعل (کام کرنے والا) مرفوع ہوتا ہے۔

← كُلُّ مَفْعُولٍ مَنْصُوبٌ (کے)


ہر مفعول (جس پر کام کیا جائے) منصوب ہوتا ہے۔


- All Subjects (Faa'il) are MARFOO (word Ending with PESH) (Nominatives)
- All Objects (Maf'ool) are Mansoob (word Ending with ZABAR) (Accusatives)


Example 1 (Surah Az-Zumar, 39:29)

Arabic: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا

Transliteration: *Daraba Allāhu mathalan*

Translation: "Allah presents an example" 

- **Verb:** ضَرَبَ (*Daraba* - presented)
- **Subject (Fā'il):** اللهُ (*Allāhu* - Allah) - indicated by the dammah (u sound) at the end.
- **Object (Maf'ūl bihi):** مَثَلًا (*mathalan* - an example) - indicated by the fathatan (an sound) at the end. 



Worksheet/Assignment

Status (Faa'il, Maf'ool or Izaafi Haalat)	Airaabi(Marfoo, Mansoob or Majroor)	Ism 2	Status (Faa'il, Maf'ool or Izaafi Haalat)	Airaabi Haalat(Marfoo, Mansoob or Majroor)	Ism 1.	Ayat Ref	Ayat
		دَاوُدَ طے			سُلَيْمَانُ مَنْ	An Naml 16	وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ طے
							سلیمان داؤد کے جانشین بنے
		جَالُوتَ			دَاوُدُ وَدُ	Al Baqarah 251	قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
							داؤد نے جالوت کو قتل کیا
						Al Fath ayat 29	مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ج
							Muhammad (PBUH) is Messenger (Rasool) of Allah محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

اعراب		
رفح ٤٠	نصب ٤١	جر ٤٢
اسم حالت رفح میں ہوتو	اسم حالت نصب میں ہو	تو اسم حالت جر میں ہوتو
مرفوع	منصوب	مجرور
فاعل	مفعول	نسبت
ذَهَبَ زَيْدٌ	نَصَرَ زَيْدًا	كِتَابُ زَيْدٍ

Worksheet/Assignment

Status (Faa'il, Maf'ool or Izaafi Haalat)	Airaabi(Marfoo, Mansoob or Majroor)	Ism 2	Status (Faa'il, Maf'ool or Izaafi Haalat)	Airaabi Haalat(Marfoo, Mansoob or Majroor)	Ism 1.	Ayat Ref	Ayat
					اللہ	الزمر: 29	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
							اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی
						المزمل: 16	فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
							تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا

1a - اعرابی حالت (part 1)

عربی میں بعض الفاظ کے آخر میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے جس سے معنی میں کوئی فرق نہ پڑتا مثلاً مندرجہ ذیل آیات میں لفظ «اللہ» پر غور کریں۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

آپ نوٹ کریں گے کہ لفظ اللہ پر کہیں ضمہ ہے، کہیں فتح اور کہیں کسرہ۔ لیکن معنی ہر جگہ ایک ہی ہے۔

اسی طرح قرآن میں کبھی مُسْلِمُونَ آتا ہے اور کبھی مُسْلِمِينَ، کبھی مُسْلِمَاتٍ اور کبھی مُسْلِمَاتٍ۔

تعریف: جملہ میں اسم کے مقام کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلی اعراب یا حالت کہلاتی ہے۔

اردو اور انگریزی میں یہ تبدیلی بہت محدود ہے۔ صرف اسم ضمیر Pronouns اس طرح تبدیل ہوتے ہیں جبکہ عربی میں یہ تبدیلی 90% اسماء میں ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں۔

1- زید گیا۔

2- اس نے زید کی مدد کی۔

3- زید کی کتاب۔

1.Zaid went.

2.He helped Zaid.

3.Zaid's book.

اردو اور انگریزی کی اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ لفظ زید ہی فاعل، مفعول اور مالک کی حیثیت میں استعمال ہوا ہے مگر اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جبکہ عربی میں تبدیلی ہوتی ہے۔

1۔ ذَهَبَ زَيْدٌ۔ (فاعل)

2۔ نَصَرَ زَيْدًا۔ (مفعول)

3۔ كِتَابُ زَيْدٍ۔ (نسبت یا ملکیت)

یہی وجہ ہے کہ عربی زبان سمجھنے کے لیے ہر اسم کی حالت کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم فاعل اور مفعول کو نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی درست ترجمہ کر سکتے ہیں اور ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جس سے جملے کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل آیت پر غور کریں:

فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ

”تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔“

اس آیت میں آدم فاعل ہے اس لیے اس پر ضمہ ہے اور رب مفعول ہے اس لیے اس پر فتح ہے۔ اگر آدم پر فتح اور رب پر ضمہ لگا دی جائے تو اس کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے۔

اعراب

رفع، نصب، جر۔
اسم حالت رفع میں ہو تو اسم حالت نصب میں ہو تو اسم حالت جر میں ہو تو

مجرور	منصوب	مرفوع
نسبت	مفعول	فاعل
كِتَابُ زَيْدٍ	نَصَرَ زَيْدًا	ذَهَبَ زَيْدٌ